

147867 - شادی سے قبل بیوی نے دین والی ظاہر کیا لیکن شادی کے بعد نماز میں سستی کرنے لگی کیا اسے طلاق دے دے

سوال

میں لندن میں رہائش پذیر ہوں، اور ایک اسلامی ملک کی عورت سے صالح ہونے کی بنا پر شادی کی، لیکن شادی کے بعد میں نے اسے صالح نہیں پایا جس طرح اس نے منگنی کے وقت ظاہر کیا تھا، میں نے اس سے شادی دین والی ہونے کی وجہ سے کی تھی نہ کہ اس کے جمال و خوبصورتی اور اس کے مال و دولت اور نہ ہی حسب و نسب کی بنا پر۔

میں اب محسوس کرتا ہوں کہ میں شادی میں ناکام ہوا ہوں کیونکہ وہ دین پر عمل نہیں کرتی نہ تو اس طرح جو اس نے ظاہر کیا تھا، اور نہ ہی اس طرح جس کی میں توقع رکھتا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سلسلہ میں مجھ پر کیا کرنا ضروری ہے؟

میری پلاننگ تو یہ تھی کہ میری اولاد امت مسلمہ کے علماء ہو گی، لیکن میں نہیں دیکھتا کہ یہ عورت میرے بیٹوں کی ماں ثابت ہو سکتی ہے، میں نے شادی سے قبل اس کے سامنے اپنا مقصد اور پلاننگ بیان بھی کی تھی۔ اور پھر شادی کے بعد تو وہ میری داڑھی کو بھی ناپسند کرنے لگی، حالانکہ شادی سے قبل اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اور وہ اطاعت بھی نہیں کرتی، بلکہ اپنے عمل پر مصر ہے میں نے اسے ایک بار تو طلاق کی دھمکی بھی دی تھی کہ اگر اس نے میری اطاعت نہ کی تو طلاق دے دوں گا، کچھ عرصہ تک تو وہ میری بات ماننے لگی، لیکن پھر وہی روش اختیار کر لی۔

میں نے اسے حقیقی اسلامی تعلیمات کی تعلیم بھی دینا چاہی لیکن وہ اس کا اہتمام نہیں کرتی، وہ فجر کی نماز ادا نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ اس نے غسل کرنا ہے، لہذا میں نے غسل واجب کرنے والے تعلقات قائم کرنا ہی چھوڑ دیے ہماری شادی کو ابھی صرف دو ماہ ہوئے ہیں کیا میں اسے طلاق دے دوں یا کہ صبر و تحمل سے کام لوں؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

اول:

بلاشك و شبه دین والی عورت تلاش کرنا سب سے پہلا واجب ہے جو کسی بھی خاوند کے لیے سب سے پہلا واجب ہے جسے شادی کے لیے سب سے پہلے مدنظر رکھنا ضروری ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

راہنمائی بھی یہی ہے۔

پھر ہم میں سے ہر ایک تو اس کے مطابق حکم لگاتا ہے جو اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ عورت کے بارہ دریافت کرتا ہے، اور اس کے خاندان کے متعلق پوچھتا ہے، اور شادی سے قبل اس کی حالت دریافت کرتا ہے، یہ نہیں کہ وہ عورت خود جو کچھ ظاہر کرتی ہو اس کو دیکھ کر کوئی حکم لگائے، یا پھر اس کے مظہر کو دیکھ کر کوئی رائے قائم کر بیٹھے یا پھر کسی اور موقف کی بنا پر۔

اس لیے اگر وہ اس کے بارہ میں پوچھ گچھ کرتا ہے اور پھر معاملہ اس کی توقع کے برعکس ظاہر ہو تو یہ ایک تقدیری معاملہ ہوگا جس میں اس کا اپنا کوئی دخل نہیں وہ اس کا محتاج ہے کہ اس کے ساتھ کس طرح معاملات کرے، اس پر جو واجب تھا اس نے پورا کر دیا۔

دینی التزام اور دیندار ہونا یہ ایک تفصیل طلب امر ہے بعض لوگ چاہتے ہیں کہ اس میں انہیں ان کے مطابق دین والی ملے، جو کہ نفلی روزے بھی رکھتی ہو، اور قیام اللیل بھی کرے اور قرآن مجید کی بھی حافظہ ہو، یا پھر سارا نہیں تو کچھ نہ کچھ حفظ کیا ہو، یا وہ شرعی علم کی ماہر ہو.... اس کے علاوہ اور بھی رغبات ہوتی ہیں۔

لیکن بعض دوسرے افراد کی نظر دیندار ہونے کا درجہ مختلف ہوتا ہے۔

فی الواقع اس میں لوگ مختلف ہیں، اور اس کا حصول بھی ممکن ہے، اور نہ ملنا بھی ممکن ہے، یہ سب کچھ شادی سے قبل ہے لیکن شادی کے بعد ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں:

اول:

یہ کہ وہ دیندار تو ہو لیکن جس کی توقع تھی اس سے کم درجہ کی دیندار ہو یا پھر مطلوبہ درجہ سے کم دین رکھتی ہو، یہ حالت قبول کرنی ممکن ہے، چاہے ہماری امید سے کم ہی ہو جبکہ وہ صرف واجبات و فرائض پر عمل کرتی اور حرام کردہ سے اجتناب کرے۔

اور اگر عورت اس واجب حد سے بھی کم درجہ یعنی واجبات و فرائض کی ادائیگی کرتی ہے اور حرام اشیاء سے اجتناب کرتی ہے تو یہ خیر و نجات پر ہے، ان شاء اللہ، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس میں خاوند کی اطاعت و فرمانبرداری بھی پائی جاتی ہو۔

امام احمد رحمہ اللہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" جب عورت پانچ نمازیں ادا کرتی ہو، اور رمضان کے روزے رکھتی ہو، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور اپنے

خاوند کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والی ہو، تو اسے کہا جائیگا جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی جنت میں داخل ہو جاؤ"

مسند احمد حدیث نمبر (1573) علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے بعد مرد و عورت خیر و بھلائی میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، اور نفل و نوافل میں ایک دوسرے کے ممد و معاون بنیں، لیکن بڑی مشکل اس وقت پیش آتی ہے جب اطاعت میں اس حد تک کمزوری پیدا ہو جائے کہ واجب کو ترک کرنا شروع کر دیا جائے اور حرام کا ارتکاب ہونے لگے۔

امام احمد رحمہ اللہ نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" ہر عمل کے لیے نشاط و رغبت ہوتی ہے، اور ہر نشاط و رغبت کے لیے ایک مدت ہے، جس کی مدت میری سنت کی جانب ہو تو وہ کامیاب ہے، اور جو اس کے علاوہ ہو تو وہ ہلاک ہو گیا "

مسند احمد حدیث نمبر (6664) علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

اس کا معنی یہ ہے کہ: انسان پر ایسا وقت بھی آتا ہے جس میں وہ چست ہو کر عبادت و اطاعت کرتا ہے، اور پھر کبھی ایسا بھی وقت آتا ہے کہ جن حالات میں اس پر سستی و کاہلی طاری ہو جاتی ہے، اور وہ اس درجہ سے کم درجہ میں آ جاتا ہے یہ چیز لوگوں کی طبیعت میں معروف ہے، ایسے شخص کی کامیابی کی امید ہے۔

لیکن یہ اس وقت ہے جب وہ سستی و کاہلی کے عرصہ میں فرائض کی ادائیگی میں سستی نہ کرے، اگر وہ فرائض کو ترک کر دے یا پھر اس میں سستی کرے تو وہ ہلاک ہو گیا۔

اور یہ ہلاکت صرف گناہ کی وجہ سے نہیں کہ وہ گناہ میں پڑ گیا اور ہلاک ہو گیا، کیونکہ ہم سب گنہگار ہیں اور غلطیاں کرتے ہیں، بلکہ یہ ہلاکت تو اس وقت ہے جب یہ چیز انسان کے عام سلوک میں ظاہر ہو اور اس کی حالت پر غالب آ جائے اور گناہ میں پڑ جائے، اور نہ تو وہ متاثر ہو اور نہ ہی نادم ہو کر توبہ کرے، بلکہ وہ گناہ پر اصرار کرنا شروع کر دے یا پھر گناہ کی طرف مائل ہو جائے۔

دوم:

آپ نے جو اپنی بیوی کی حالت بیان کی ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ اس سستی و کاہلی میں پڑ گئی ہے جس سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، بلکہ یہ تو اس قسم میں سے ہے جس کی حقیقت میں شك ڈالتا ہے کہ وہ جو دیندار ظاہر کر رہی تھی وہ ایک دکھلاوا تھا، اس لیے جب وہ بعض اطاعات میں سستی کرتی ہے تو پھر اسے آپ کی داڑھی کا

کیا کہ وہ اس سے تنگ کیوں نہ ہو؟!

اس لیے اب آپ پر واجب یہ ہے کہ آپ اس کی اس حالت میں اس کے لیے سستی نہ دکھائیں، کیونکہ فجر کی نماز میں سستی کرنا بہت بڑا جرم ہے، بلکہ اکثر صحابہ کرام کے ہاں تو یہ کفر مخرج عن الملة ہے۔

اور شیخ عبد العزیز بن باز رحمہ اللہ بھی اسی کا فتویٰ دیتے تھے، اس لیے آپ اس کو ایسا نہ کرنے دیں، اور اگر اس میں اس کے لیے غسل مانع ہے تو پھر آپ اسے بغیر غسل کیے سوئے ہی نہ دیں، تا کہ اس کا عذر ختم ہو جائے۔

واقعاً بیوی کے متعلق آپ کی پریشانی میں ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں، اور آپ کو اس سے اولاد پیدا کرنے کے بارہ میں غور و فکر کرنے کا کہتے ہیں، آپ اس کے ساتھ ایک بار پھر کوشش کر دیکھیں، اگر وہ نماز کی صحیح ادائیگی کرتی ہے اور وقت پر نماز ادا کرتی ہے جس میں سب سے پہلے فجر کی نماز ہے، اور پھر آپ کی اطاعت کرتی ہے اور اپنے ذمہ حقوق کی ادائیگی بھی کرے تو آپ کچھ عرصہ اور صبر کریں، اور اس کی حالت کو دیکھیں کہ وہ کیا کرتی ہے، اور آپ اسے کی اصلاح کرتے ہوئے اسے تعلیم دیں، اور اس کے ٹیڑھ پن اور اس کی کمزوری حالت کو برداشت کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے اور اس کی حالت کی اصلاح فرما دے۔

لیکن اگر آپ دیکھیں کہ وہ نماز کے معاملہ میں سستی کرنے پر مصر ہے، یا پھر آپ کے دینی معاملہ میں دخل اندازی کرتی ہے، اور آپ کی داڑھی پر اعتراض کرتی ہے، تو پھر اس میں کوئی خیر و بھلائی نہیں۔

ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ اس سے اولاد پیدا ہونے سے قبل ہی علیحدہ ہو جائیں، کہ کہیں اولاد پیدا ہو جائے اور یقینی مشکلات پیدا ہوں۔

مزید آپ سوال نمبر (98624) کے جوابات کا مطالعہ ضرور کریں۔

اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ آپ کو صحیح راہ دکھائے اور آپ کی راہنمائی فرمائے۔

واللہ اعلم .